



ENGLISH

IMPORTANT! The parasol must be completed with 4 slabs (size min. 30x30 cm, total weight min. 50 kg).

DEUTSCH

ACHTUNG! Der Sonnenschirm muss mit 4 Platten (mind. 30x30 cm groß, Gesamtgewicht mind. 50) gesichert werden.

FRANÇAIS

IMPORTANT! Le parasol doit être utilisé avec 4 dalles (taille min. 30x30 cm, poids total min. 50 kg).

NEDERLANDS

BELANGRIJK! De parasol moet worden gewaarborgd met 4 platen (afmeting min. 30x30 cm, totaal gewicht min. 50 kg).

DANSK

VIGTIGT! Parasollen skal sikres med mindst 4 blokke (størrelse min 30x30 cm, samlet vægt min 50 kg).

ÍSLENSKA

MIKILVÆGT! Með sóhlífinni þurfa að vera fjögur lóð/hellur (amk 30x30cm að stærð, samtals 50kg).

NORSK

VIKTIG! Parasollen må sikres med 4 stk plater (størrelse min. 30x30 cm, totalvekt min. 50 kg).

SUOMI

TÄRKEÄ! Aurinkovarjo tulee tukea neljällä, vähintään 30x30 cm:n kokoisella painolla, joiden yhteispaino on vähintään 50 kg.

SVENSKA

VIKTIGT! Parasollet måste säkras med 4 st plattor (storlek min. 30x30 cm, totalvikt min. 50 kg).

ČESKY

DŮLEŽITÉ! Slunečnick je třeba upevnit pomocí 4 dlaždic (o velikosti 30x30 cm a celkové hmotnosti min. 50 kg).

ESPAÑOL

IMPORTANTE La sombrilla se debe fijar con 4 placas (tamaño mínimo 30x30 cm, peso total mínimo 50 kg).

ITALIANO

IMPORTANTE! L'ombrellone deve essere completato con 4 piastre (della misura di min. cm 30x30, peso totale di min. kg 50).

MAGYAR

FONTOS! A napernyőt négy nehezzekkel (min. méret: 30x30 cm, összsúly: min.50 kg) ki kell egészíteni!

POLSKI

WAŻNE! Parasol trzeba uzupełnić 4 płytami (min. rozmiar 30x30 cm, min. waga całkowita 50 kg).

EESTI

OLULINE! Päikesevarju tuleb täiendada 4 plaadiga (min suurusega 30x30 cm, kogukaaluga min 50 kg).

LATVIEŠU

SVARĪGI! Saulesargs jānostiprina zemē ar 4 betona, cementa vai līdzīga materiāla plāksnēm (plāksņu min. lielums: 30x30 cm, min. kopējais svars: 50 kg).

LIETUVIŲ

SVARBU! Lietsargis turi būti tvirtinamas ant 4 plokščių (mažiausi plokštės matmenys yra 30x30 cm, bendras svoris - mažiausiai 50 kg).

PORTUGUES

IMPORTANTE! O chapéu-de-sol deve ser completado com 4 pesos (tamanho mín. 30x30 cm, peso mín. total 50 kg).

ROMÂNĂ

IMPORTANT! Montarea parasolului trebuie completată cu 4 plăci(dimensiuni minime 30x30 cm, greutate totală 50 kg).

SLOVENŠKY

DŮLEŽITÉ! Slnečnick musí byť zaťažený na spodku 4 tvárniciami (s min. rozmermi 30x30 cm a min. váhou 50 kg).

БЪЛГАРСКИ

ВАЖНО! Сенникът трябва да бъде допълнен с 4 плочки (мин. размер 30x30 см, мин. общо тегло 50 кг).

HRVATSKI

VAŽNO! Suncobran se mora nadopuniti četiriĉma ploĉama (veličine min. 30 x 30 cm, ukupna teŹina min. 50 kg).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η ομπρέλλα ήλιου πρέπει να συμπληρώνεται με 4 πλάκες (ελάχιστων διαστάσεων 30x30 cm και με ολικό ελάχιστο βάρος 50 kg).

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ! Основание зонта от солнца необходимо дополнить 4 плитам (мин. размер 30x30 см, общий вес мин. 50 кг).

SRPSKI

BITNO! Suncobran treba da bude upotpunjen s 4 tega (veličina: najmanje 30x30cm, ukupne teŹine: najmanje 50kg).

SLOVENŠĀINA

POMEMBNO! Vrtni senĉnik mora biti utrjen s 4 teŹkimi bloki (velikost najmanj 30x30 cm, skupna teŹa najmanj 50 kg).

TŪRKÇE

ÖNEMLİ! Güneş Źemsiyesi 4 kalın parĉa ile tamamlanmalıdır (min. 30x30 cm, toplam min. aŹırlık 50 kg.)

中文

重要提示! 阳伞必须配用4块水泥板 (尺寸至少为30x30cm, 总重量至少为50kg)。

繁體

重要訊息! 陽傘須以四片厚板固定(尺寸最小是30x30公分, 總重量最少是50公斤)。

한국어

중요! 파라솔에는 슬래브 (최소 30x30 cm, 최소 합계 50 kg) 4개를 추가해서 사용해야 합니다.

日本語

重要! パラソルは、スラブ板4枚を使用して固定してください。スラブ板1枚のサイズは30×30 cm以上、重さは合計50 kg以上必要です。

BAHASA INDONESIA

PENTING! payung harus dilengkapi dengan 4 lempengan (min ukuran 30x30 cm, min total berat. 50 kg).

BAHASA MALAYSIA

PENTING! Payung mestilah dilengkapi dengan 4 bidur simen (saiz min. 30x30, jumlah berat min. 50 kg)

عربي

هام! يجب تكملة المظلة الخفيفة ب 4 ألواح) قياس أدنى 30x30 سم, الوزن الإجمالي 50 كجم على الأقل).

ไทย

สำคัญ! ต้องวางแผนคอนกรีตยึดฐานร่วมให้ครบทั้ง 4 แผ่น แผ่นคอนกรีตต้องมีขนาดอย่างน้อย 30x30 ซม. น้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า 50 กก.